



آج کے بعد پھر تمہارے ابا جان کو کوئی تکلیف نہیں لاحق ہوگی!

انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ ﷺ کی مرض کی شدت میں اضافہ ہو گیا، تو آپ ﷺ پر (سکرات) کی سختی طاری ہونے لگی فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں: "ابا میرے ابا جان کو کیسی بے چینی لاحق ہو گئی ہے! اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: "آج کے بعد پھر تمہارے ابا جان کو کوئی تکلیف نہیں لاحق گی!" پھر جب آپ ﷺ کی وفات ہو گئی، تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں: "ہائے ابا جان! آپ نے اپنے رب کے بلاؤں پر لیبک کیا، ہائے ابا جان! آپ اپنے مستقر یعنی جنت الفردوس میں چلے گئے، ہائے ابا جان! ہم جبریل علیہ السلام کو آپ کی وفات کی خبر دیتے ہیں! جب آپ ﷺ کی تدفین ہو چکی تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا: تم لوگوں نے آخر یہ کیسے گورا کر لیا کہ رسول اللہ ﷺ پر مٹی ڈال دو؟

[صحیح] [اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے]

یہ حدیث سکرات الموت میں ہمارے نبی ﷺ کی صبر کی منظر کشی کرتی ہے جب رسول اللہ ﷺ کا مرض شدت اختیار کر گیا، تو تکلیف کی شدت سے آپ ﷺ پر غشی طاری ہونے لگی آپ ﷺ کی شدید تکلیف اور مرض سے دو چار تھے اس میں ایک بڑی حکمت بھی تھی! حکمت یہ تھی کہ آپ کو صبر کے عوض میں اللہ تعالیٰ کے پاس اونچے درجات حاصل ہوں۔ جب آپ پر بے چینی طاری ہوتی، تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتیں: "ابا میرے ابا جان کو کیسی تکلیف لاحق ہو گئی ہے! انہیں آپ کی کرب و تکلیف دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا، کیوں کہ وہ ایک عورت تھیں اور عورت میں صبر کی طاقت نہیں ہوتی اس پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "آج کے بعد پھر تمہارے ابا جان کو کوئی تکلیف لاحق نہیں ہوگی!" کیوں کہ آپ ﷺ دنیا سے رفیق اعلیٰ کے پاس منتقل ہو گئے جیسا کہ بوقت وفات آپ ﷺ فرما رہے تھے: "اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى" ترجمہ: اے اللہ! مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ! مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ یہ الفاظ کہتے ہو آپ ﷺ گھر کی چھت کی طرف دیکھ رہے تھے جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی، تو فاطمہ رضی اللہ عنہا رو کر آپ کے کچھ احوال بیان کرنے لگیں تاہم اس کی نوعیت بہت معمولی تھی اور اس میں اللہ کی قضا و قدر پر ناراضگی کا اظہار بھی نہیں تھا فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا: "آپ نے اپنے رب کے بلاؤں پر لیبک کیا" کیوں کہ ہر شے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور تمام مخلوق کے اوقات مرگ بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں چنانچہ آپ ﷺ نے اللہ کے بلاؤں پر لیبک کیا دراصل آپ ﷺ کی جب وفات ہو گئی تو آپ دیگر ایمان والوں کی طرح ہو گئے آپ کی روح مبارک بھی اوپر اٹھتی گئی یہاں تک کہ ساتویں آسمان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جا کر رک گئی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا: "ہائے ابا جان! آپ اپنے مستقر یعنی جنت الفردوس میں چلے گئے" فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایسا اس لیے کہا، کیوں کہ جنت میں آپ کے مرتبے سب مخلوق سے اعلیٰ ہو گا، جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلے مانگوں یہ جنت میں ایک ایسا مرتبہ ہے، جس کا سزاوار اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک ہی بند ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بند میں ہوں گا" اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ﷺ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے جنت الفردوس جنت جنت کے درجات میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جس کے اوپر موجود چھت رب تعالیٰ شانہ کا عرش ہے نبی ﷺ جنت الفردوس کے بھی سب سے اعلیٰ درجہ میں ہوں گے "ہائے ابا جان! ہم جبریل علیہ السلام کو آپ کی وفات کی خبر دیتے ہیں" فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہم آپ کی وفات کی خبر جبریل علیہ السلام کو دیتے ہیں! کیوں کہ یہ جبریل علیہ السلام ہی تھے، جو آپ کے پاس آئے اور آپ کی حیات میں آپ کے ساتھ وحی کا مذاکرہ کرتے تھے اور وحی آپ کی حیات کے ساتھ مربوط ہے جب آپ کو لے جا کر دفن کر دیا گیا، تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں: "تم لوگوں نے آخر یہ کیسے گورا کر لیا کہ رسول اللہ ﷺ پر مٹی ڈال دو؟" انہوں نے ان سے یہ سوال اس لیے کیا، کیوں کہ وہ آپ کی وفات پر شدید غم زدہ اور آپ کی جدائی کے دکھ اور درد میں

مبتلا تھیں اور جانتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنا رسول کی محبت سے بھر رکھا ہے۔ تاہم فیصلہ کرنے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ: ”إِنَّكَ مَبِئْتٌ وَإِنَّهُمْ مَبِئُونَ“ (الزمر: 30) ترجمہ: یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3306>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

